

اقوالِ زریں (برائے مطالعہ)

سوچیں اور بتائیں

- اچھی باتوں پر عمل کرنا کیوں ضروری ہے؟
- آپ کون سی اچھی باتوں پر عمل کرتے ہیں؟ کوئی سی دو باتوں کے بارے میں بتائیں۔

کیا آپ جانتے ہیں کہ ”اقوال“ کسے کہتے ہیں؟ لفظ ”اقوال“ قول کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے ”بات، مقولہ یا کہاوت۔“ اب ہم ایسے چند اقوال پڑھیں گے جو دنیا کے بہترین انسانوں سے منسوب ہیں۔ یہ اقوال حکمت سے بھرپور ہیں۔ ان پر عمل کرنے سے ہم اپنی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لاسکتے ہیں۔

- جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا، اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ (حضرت محمد رسول اللہ ﷺ)
- والدین کی خوشنودی دنیا میں دولت اور آخرت میں نجات ہے۔ (حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ)
- خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے۔ (حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ)
- خوش اخلاقی بہترین دوست ہے۔ (حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ)
- نیکوں سے میل جول رکھو گے تو تم بھی نیک ہو جاؤ گے۔ (حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ)
- اچھا دوست وہ ہے، جو مصیبت میں کام آئے۔ (شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ)

سمجھیں اور بتائیں

- قول کسے کہتے ہیں؟
- خوش رہنے کے لیے کیا ضروری ہے؟
- غصے کا بہترین علاج کیا ہے؟
- سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟
- مسلسل محنت کرنے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟
- اچھا دوست کون ہوتا ہے؟
- اگر کھانا پسند نہ آئے تو کیا کرنا چاہیے؟
- اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو مسلسل محنت کرو۔ (مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ)
- خوش رہنا چاہتے ہو تو دوسروں کو خوش رکھو۔ (شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ)
- تلاوتِ کلامِ پاک سے افضل کوئی عبادت نہیں۔ (فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ)
- کھانے میں عیب نہ نکالو، اگر پسند نہ ہو تو مت کھاؤ۔ (امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ)
- (بحوالہ کتاب: بہت اچھے اقوال)